



## Oslo kommune Utdanningsetaten

Lakkegata میں تعلیمی سال 2020-2021 میں پہلی، دوسری اور تیسری جماعت کے طالبعلموں کے سرپرستوں کیلئے معلومات

اوسلو، 18.02.2020

### تعلیمی سال 2020-2021 میں پہلی تا تیسری جماعت کیلئے Aktivitetsskolen/AKS (ایکٹویٹی سکول) میں مفت شرکت کے بارے میں معلومات

Lakkegata میں پہلی، دوسری اور تیسری جماعت میں داخل ہونے والے تمام بچوں کو تعلیمی سال 2020-2021 میں سکول سے چھٹی کے بعد AKS (ایکٹویٹی سکول) میں مفت شرکت کی پیشکش مل رہی ہے۔ یہ پیشکش یکم اگست 2020 سے دستیاب ہے۔

#### سکول سے چھٹی کے بعد مفت شرکت سے کیا مراد ہے؟

- ہر روز سکول سے چھٹی کے بعد طالبعلم AKS میں رہ سکتے ہیں اور 12 گھنٹوں تک کے کل ہفتہ وار وقت کو روزانہ برابر طور پر تقسیم کیا جائے گا۔
- سکول کی تعطیلات (خزاں اور سردیوں کی تعطیلات، کرسمس اور ایسٹر کی تعطیلات، اور جولائی کے علاوہ جب AKS بند ہوتا ہے، گرمیوں کی تعطیلات) میں طالبعلم فی ہفتہ دو دن AKS میں رہ سکتا ہے۔
- تعلیمی سال میں پلاننگ کے دنوں/چھٹی کے دنوں کے بیچ آنے والے ایام کار میں طالبعلم AKS میں آدھا دن رہ سکتا ہے۔
- اگر آپ چاہتے ہوں کہ بچہ AKS میں اس سے زیادہ وقت رہے تو آپ رعایتی فیس پر فل ٹائم سیٹ خرید سکتے ہیں۔

#### رعایتی فیس پر فل ٹائم سیٹ

فل ٹائم سیٹ کی فیس سرپرستوں کی آمدنی پر منحصر ہوتی ہے اور ماہوار 242 کرونر اور 1029 کرونر کے درمیان ہوتی ہے۔ فل ٹائم سیٹ رکھنے والا طالبعلم سکول کے اوقات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور سکول کی تعطیلات (جولائی کے علاوہ) کے تمام دنوں میں AKS میں رہ سکتا ہے۔

#### زیادہ شرکت اور لسانی اہلیت کی تقویت

AKS سیکھنے کیلئے ایک متبادل ماحول ہے جو کھیل اور تربیت کے ذریعے طالبعلموں کی تعلیمی اور سوشل نشوونما کو تقویت دے گا۔ سکول کے ساتھ تعاون رکھتے ہوئے AKS ایک جامع پیشکش فراہم کرے گا۔

سکول سے چھٹی کے بعد AKS میں مفت شرکت کا مقصد یہ ہے کہ:

- طالبعلموں کی لسانی اہلیتوں کو تقویت دی جائے
- AKS میں شرکت بڑھائی جائے
- AKS کا معیار بلند کیا جائے اور سب کیلئے مساوی پیشکش یقینی بنائی جائے

#### AKS میں داخلے کی درخواست اس طرح دی جاتی ہے

AKS میں بچوں کے نام لکھوانے کیلئے سرپرستوں کو بلدیہ اوسلو کے ویب سائٹ پر موجود پورٹل استعمال کرنا ہوگا:

[www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen](http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen)

Utdanningsetaten

Besøksadresse:  
Strømsveien 102  
0663 OSLO  
Postadresse:  
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 21 80 21 80  
Telefaks: 22 65 79 71

Org.nr.: 976820037

postmottak@ude.oslo.kommune.no  
www.ude.oslo.kommune.no



Oslo kommune  
Utdanningsetaten

اس بارے میں مزید معلومات کیلئے کہ کونسے سکول پہلی تا چوتھی جماعت کیلئے چھٹی کے بعد AKS میں مفت شرکت فراہم کرتے ہیں، دیکھیں: <https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid>  
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سکول سے رابطہ کریں۔

Utdanningsetaten

Besøksadresse:  
Strømsveien 102  
0663 OSLO  
Postadresse:  
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 21 80 21 80  
Telefaks: 22 65 79 71

Org.nr.: 976820037

postmottak@ude.oslo.kommune.no  
www.ude.oslo.kommune.no